



CURE
OF
Cancer
— AND —
OTHER DISEASES
BY
The Holy Qurrān

CURE OF CANCER AND
OTHER DISEASES BY
THE HOLY QURAN

Published by:
Peermahomed Ebrahim Trust
139, Faran Housing Society
Off. Haiderali Road, Karachi-75800

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DUA TO BE RECITED
WHILE VISITING A PATIENT**

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ

AZ HIBIL BA-SA RABBA-NNAS
Remove this difficulty; O Lord of mankind.

وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي

WASHFI, ANTASH SHAAFI
And heal! You are the Healer.

لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ

LA SHIFAA-A ILLA SHIFAA-UKA
There is no healing except Your healing

شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

SHIFAA-AN LA YUGHADIRU SUQMAN
Healing that leaves behind no sickness

CANCER CURED

In 1972, a person suffering from Cancer was declared incurable by the doctors of the time. He was very much worried of his ailment but as a last hope he turned to the Holy Quran believing that the Book of Allah is true in its promise:

An We reveal in the Quran that which is cure and mercy to the believers.

He found a series of Ayat and decided to recite those ayat and get the Cancer cured. His sound belief and true advise of the Holy Quran, *alhamdulillah*, he recovered health.

For the benefits of Mumin brothers and sisters the verses of the Holy Quran are published in sequence which is not only for cancer but for every diseases, so that anybody may get the blessings of Holy Quran.

Readers are requested to please pray for the suffering persons.

Recite 15 times *salawat* at the beginning and end of the amal. Also recite *Bismillaahir-Rahmaanir-Raheem* before every verse.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ

We sent down the Quran which is a healing and a mercy for the believers; [17:82]

اور ہم تو قرآن میں وہی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لئے (سراسر) شفا اور رحمت ہے

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

And heals me when I am sick, [26: 80]

اور جب بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عنایت فرماتا ہے

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ

And say: O My Lord forgive and have mercy, You are the best of the merciful s. [23:118]

اور (اے رسول!) آپ کہو اے میرے پروردگار! تو (میری امت کو) بخش دے اور ترس کھا اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

Is not He (best) who answers the distressed when he calls to Him, and removes the distress?

بھلا وہ کون ہے کہ جب بے قرار سے پکارے تو دعا قبول کرتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

We said: “O fire, be cool, and (a means of) safety for Ibrahim.” [21:69]

ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر بالکل ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث ہو جا
(کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے)

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

(Remember) Ayyub, when he cried His Lord (saying): “Verily, distress has touched me, and You are the most merciful of the mercifuls.” [21:83]

اور (اے رسول) ایوب (کا قصہ یاد کرو) جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ (خداوند) بیاری تو میرے پیچھے لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے کہیں بڑھ کر ہے

أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ

Verily, I am overcome, so help me. [54:10]

(بار الہا) میں (ان کے مقابلے میں) کمزور ہوں تو اب تو ہی (ان سے) بدلہ لے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ
وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

There is no god but You, Glory be to You. Verily I was of the unjust. Then We responded to him and delivered him from grief, thus do We deliver the believers. [21:87-88]

(پروردگار) تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو (ہر عیب سے) پاک و پاکیزہ ہے۔ بیشک
میں قصور وار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں رنج سے نجات
دلائی اور ہم تو ایمانداروں کو یوہنی نجات دیا کرتے ہیں

إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ

Verily, my Lord is keeping (protecting) watch over all things. [11:57]

اس میں تو شک نہیں کہ میرا پروردگار ہر چیز کا نگہبان ہے

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Allah is sufficient for us! And most excellent is He who protects us.” [3:173]

خدا ہمارے واسطے کافی ہے اور کیا اچھا کارساز ہے

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

Put your trust in Allah. Allah is a sufficient protector. [33:3]

اور خدا ہی پر بھروسہ رکھو اور خدا ہی کارسازوں کے لئے کافی ہے

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

Is not Allah sufficient for His servant? [39:36]

کیا خدا اپنے بندوں (کی مدد) کے لئے کافی نہیں ہے (ضرور ہے)

هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

He is your master, an excellent master and an excellent Helper. [22:78]

وہی تمہارا سرپرست ہے، تو کیا اچھا سرپرست ہے اور کیا اچھا مددگار ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Praise be to Allah, the Lord of the worlds. [1:2]

سب تعریف خدا ہی کے لئے (سزاوار) ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے

نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

An excellent master, an excellent helper [8:40]

اللہ اچھا آقا اور اچھا مددگار ہے

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Blessed be Allah, the best of the Creators. [23:14]

پس اللہ برکت دینے والا بہترین خالق ہے

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

There is no power nor strength with (anyone) save Allah, the high, the great.

نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت سوائے اللہ کے، وہ بلند مرتبہ اور عظمتوں والا ہے

Surah Fatihah and *Ayatul Kursi* (2:255) have tremendous effects in removing all sorts of diseases; therefore he recited all the above verses from the Holy Quran, he recited *salawat* before and after each prayer. He saw in a dream a dead body being brought wrapped up in white cloth in Imambargah kitchen of Bombay Masjid where for the last 80 years food is being cooked for *iftar* and *majalis* for the general public to eat and when he opened the white cloth covering to see the face of the dead body *alhamdulillah* he found him breathing and at once the man got up and started walking. That was the end of the dream which was sign for him a fresh life granted to him. He was cured of the cancer by the prayers and lived for many years whereas all others who were suffering from cancer had died except the said person.

Imam Ali (a.s.) advised to pray daily three times to

remain safe from diseases:

بِسْمِ اللّٰهِ قَدِيمِ اَزَلِيٍّ يَزِيْلُ الْعِلْلَ وَهُوَ قَائِمٌ اَزَلِيٍّ بِالْاَزَلِيَّةِ وَلَمْ يَزَلْ
وَلَا يَزَالُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّالِهٖ الطّٰهَرِيْنَ

Allah is eternal, ever lasting; He removes diseases; He is everlasting eternal, neither He ever had been non-existent nor He will ever cease to exist; in the name and for the sake of Your mercy, O the most merciful; blessings of Allah be on Muhammad and on his pious and pure children.

اللہ قدیم ہے ہمیشہ سے ہے، وہ زائل کرتا ہے بیماریوں کو، اور وہ قائم ہے ہمیشہ سے نہ وہ زائل ہوا ہے نہ وہ زائل ہوگا، واسطہ تیری رحمت کا اے سب سے زیادہ رحم کرنیوالے تمام کرنیوالوں سے، اور درود بھیجتا رہا اللہ محمد اور ان کی آل پر جو پاک و پاکیزہ ہیں

AAMAL OF BABUL HAWA-IJ

IMAM MUSA IBN JAFAR AL-KAZIM (a.s.)

Pray 2 Rakat salat ul hajat, like Fajar salat.

After *Salam* recite *salawat* 100 times.

Then recite 100 times:

يَا سَيِّدِي يَا مَوْلَايَ يَا مُوسَى بْنَ جَعْفَرِ الْحَوَائِجِ أَذْرِكُنِي

YAA SAYYIDI YA MAWLAYA YA MUSA IBN
JAFAR BABUL HAWA-IJ ADRIKNI

Recite *salawat* 100 times.

Recite Hadith al Kisa.

Pray profusely and sincerely with the *wasilah* of Imam Musa ibn Jafar (a.s.) as He is specially known to remove the sickness.

**AAMAL OF BABUL HAWA-IJ
HAZRAT ABBAS IBN ALI (a.s.)**

To seek fulfilment of legitimate desires and to remove difficulties pray a 2 *rakat salat* of *hadiya*

Abul Fazal Abbas (a.s.); and recite the following *dua* 133 times, and also *salawat* 11 times before and 11 times after the *dua*.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یَا کَاشِفَ الْکَرْبِ عَن وَّجْهِ الْحُسَیْنِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ اِکْشِفْ کَرْبِیْ بِحَقِّ اَخِیْکَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ
السَّلَامُ

In the name of Allah, the beneficent, the merciful. O he who removes hardships on account of the honour of Husayn (a.s.) drive away my hardships for the sake of Your brother Husayn (a.s.).

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے، اے وہ جو دور کرتا ہے مشکلات امام حسینؑ کی وجہ سے، دور کرو میری مصیبتیں اپنے بھائی حسینؑ کی خاطر

AAMAL OF SEVEN GLORIOUS NAMES OF ALLAH (s.w.t.)

To get rid of any diseases, carry out the Amal of the

Seven Glorious Names of Allah (s.w.t.).

Recite the following names as mentioned and pray for the health of ailing person.

YA HAFIZU	يَا حَفِيزُ	998 times
YA SALAAMU	يَا سَلَامُ	121 times
YA NAAFI-U	يَا نَافِعُ	201 times
YA BAQI	يَا بَاقِي	113 times
YA KARIMU	يَا كَرِيْمُ	27 times
YA GHAFOORU	يَا غَفُوْرُ	1286 times
YA HAADI	يَا هَادِي	20 times

Note: One, Three or Five persons may carry out the above Amal in a sitting.

The Holy Quran says:

[Prophet Ibrahim said] (Allah) heals me when
I am sick. [Ash Shu-ara : 80]

We sent down the Quran which is a healing
and a mercy for the believers. [Bani Israil: 82]

For those who believe it (Quran) is a guidance
and a cure. [Ha Mim : 44]

Imam Ali ibn Abi Talib says:

Allah has not sent down any disease save that
He has sent down its cure.

Peermahomed Ebrahim Trust
139, Faran Housing Society
Off. Haiderali Road, Karachi-75800